

(۳۹/۱)

مشق نمبر ۳۹

ماضی، مضارع کی گردانیں

۱۔ خرچن، خرچاً = باہر نکلنا.

۲۔ اخراج = باہر نکالنا.

۳۔ شترخ = نکلنے کے لیے کہنا۔ کسی چیز میں سے کوئی چیز نکالنا

۴۔ قرب (ن)، قریب (س)، قریباً، قرباً = قریب ہونا

۵۔ قرب = کسی کو قریب کرنا.

۶۔ قرب = قریب آجانا.

۷۔ نفق دن، نفقة = خرچ ہونا۔ دو مہنے والد ہونا

۸۔ نفق = خرچ کرنا

نافق = کسی سے دو رخا پن اختیار کرنا

۹۔ رشد (ن)، رشدًا = بذایت پانا

۱۰۔ رشد = بذایت دینا

۱۱۔ رشد = بذایت طلب کرنا

۱۲۔ کذب (ض)، کذبًا و کذبًا = جھوٹ بولنا

کذب = کسی کو جھوٹا کہنا.

(۲۹/۲)


غَسَلَ (ض) ، غَسَّلَ = دُهونا
 اَغْسَلَ = نِهانًا
 اَنْغَسَلَ = ذهاناً يَا دُهْل جانًا

باب تَفْعِيلٍ (فعل ماضي)

| جمع | ثنية | واحد | غَيْلَة |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| عَلَمُوا | عَلَمَتَا | عَلَمْتُ | مَذَكُورٌ |
| أُنْ سبَّ نَے سَكَھا يَا | أُنْ دُولُوں نَے سَكَھا يَا | أُسْ مَذَكُورَ نَے سَكَھا يَا | |
| عَلَمْتُمْ | عَلَمْتَمَا | عَلَمْتَ | مَؤْتَمَثٌ |
| أُنْ سبَّ نَے سَكَھا يَا | أُنْ دُولُوں نَے سَكَھا يَا | أُسْ مَؤْتَمَثَ نَے سَكَھا يَا | |
| عَلَمْتُمْ | عَلَمْتَمَا | عَلَمْتَ | مَذَكُورٌ |
| تَمْ سبَّ نَے سَكَھا يَا | تَمْ دُولُوں نَے سَكَھا يَا | تَوْ (مَذَكُور) نَے سَكَھا يَا | |
| عَلَمْتُمْ | عَلَمْتَمَا | عَلَمْتَ | مَؤْتَمَثٌ |
| تَمْ سبَّ نَے سَكَھا يَا | تَمْ دُولُوں نَے سَكَھا يَا | تَوْ (مَؤْتَمَث) نَے سَكَھا يَا | |
| عَلَمْتَنَا | عَلَمْتَنَا | عَلَمْتَ | مُتَقْلِمٌ |
| تَمْ سبَّ نَے سَكَھا يَا | تَمْ دُولُوں نَے سَكَھا يَا | تَمْ سَيِّد نَے سَكَھا يَا | مَذَكُورٌ مَؤْتَمَثٌ |




(۲۹/۳)

جمع**ثنية****واحد****(فعل ماضي)****تعلّم****تعلّم****ذكر****تعلّموا****تعلّما****تعلّم****أن سبب نے سیکھا****آن ذکر نے سیکھا****تعلّمن****تعلّمتا****مؤنث تعلّمت****آس مؤنث نے سیکھا آن سب نے سیکھا****تعلّمتم****تعلّمتما****ذكر تعلّمت****تم سب نے سیکھا****تو ذکر نے سیکھا****تعلّمتن****تعلّمتما****مؤنث تعلّمت****تم دونوں نے سیکھا تم سب نے سیکھا****تو مؤنث نے سیکھا****تعلّمنا****تعلّمتما****تكلم تعلّمت****ذکر میونث میں نے سیکھا تم سب نے سیکھا**

(۳۹/۲)

| جمع | تشفیہ | واحد | لُغْتَيْلُو لِعْلَمُ |
|---|---|--|-------------------------|
| يُعْلَمُونَ وَ سَبْ | يُعْلَمَانِ وَ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | يُعْلَمُ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَذْكُورٌ |
| يُعْلَمَانِ وَ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | يُعْلَمَانِ وَ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | تَعْلِمُ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَؤْنَثٌ |
| يُعْلَمُونَ تَمْ سَبْ | يُعْلَمَانِ تَمْ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | تَعْلِمُ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَذْكُورٌ |
| يُعْلَمَانِ تَمْ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | يُعْلَمَانِ تَمْ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | تَعْلِمَيْنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَؤْنَثٌ |
| تَعْلِمُ ہُمْ سَبْ | تَعْلِمُ ہُمْ دُونُونَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | أُعْلَمُ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَقْلُومٌ |
| مِنْ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مِنْ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ وَ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مِنْ سَكَّهَا تَبْيَنَ رَسَكَّهَا تَبْيَنَ | مَذْكُورٌ |
| | | | مَؤْنَثٌ |



Samraukull Uppal

| جمع | ثنائيه | واحد | تفعل |
|--|--|--|--|
| يَتَعَلَّمُونَ وَسَبِيلٍ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ يَتَعَلَّمُنَ وَدُونُونَ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ | يَتَعَلَّمَا نَ وَدُونُونَ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ تَعَلَّمَا نَ وَدُونُونَ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ | يَتَعَلَّمُ وَهُ سِكْفَتٌ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ تَعَلَّمُ وَهُ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ كَيْ | يَتَعَلَّمُونَ وَهُ سَبِيلٍ مُذَكَّرٌ |
| تَعَلَّمُونَ تَمْ سَبِيلٍ سِكْفَتٍ بِو، رِسْكَفُو كَيْ تَعَلَّمُنَ تَمْ سَبِيلٍ سِكْفَتٍ بِو، رِسْكَفُو كَيْ | تَعَلَّمَا نَ تَمْ دُونُونَ سِكْفَتٍ بِو، رِسْكَفُو كَيْ تَعَلَّمَا نَ تَمْ دُونُونَ سِكْفَتٍ بِو، رِسْكَفُو كَيْ | تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ | مُذَكَّرٌ |
| تَعَلَّمُ . يَمْ سَبِيلٍ سِكْفَتٍ بِينَ رِسْكَفِينَ بِينَ سِكْفَتِينَ كَيْ - | تَعَلَّمُ يَمْ دُونُونَ سِكْفَتٍ، سِكْفَتٍ بِينَ سِكْفَتِينَ كَيْ - | أَتَعَلَّمُ بِينَ سِكْفَتٍ، سِكْفَتٍ بِينَ سِكْفَتِينَ كَيْ - | مُذَكَّرٌ مُؤْنَثٌ |



Samina Rail Uppal

(۳۹/۴)

| استعمال | واحد | شنبه | جمع |
|---------|-------|------------|---|
| ماضی | منکر | أشتھر | أشتھر اُن دونوں سب نے مدد طلب کی. |
| مؤنث | أشتھر | أشتھر اُن | آشتنھر اُن دونوں نے مدد طلب کی سب نے مدد طلب کی اُس نے مدد طلب کی. |
| منکر | أشتھر | أشتھر معاً | آشتنھر اُن دونوں نے مدد طلب کی تم سب نے مدد طلب کی |
| مؤنث | أشتھر | أشتھر معاً | آشتنھر اُن دونوں نے مدد طلب کی تم سب نے مدد طلب کی تو نے مدد طلب کی |
| منکر | أشتھر | أشتھر معاً | آشتنھر اُن دونوں نے مدد طلب کی تم سب نے مدد طلب کی تو نے مدد طلب کی |
| متکلم | أشتھر | أشتھرنا | آشتنھرنا میں نے مدد طلب کی ہم دونوں نے مدد طلب ہم سب نے مدد طلب کی |

(۲۹/۷)

| جمع | تشفیہ | واحد | استعجال |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| مضارع | | | |
| یَسْتَشْهِدُونَ وَ سَبْ | یَسْتَشْهِدُونَ وَ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ وَ سَبْ | مذکر |
| وَ مدد طلب کرتا ہے رکھے گا مدد طلب کرتے ہیں رکھیں گے مدد طلب کرتے ہیں رکھیں گے | یَسْتَشْهِدُونَ وَ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ وَ سَبْ | مؤنث |
| وَ مدد طلب کرتی ہے رکھے گی مدد طلب کرتی ہیں رکھیں گی مدد طلب کرتی ہیں رکھیں گی | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ سَبْ | مذکر |
| تو مدد طلب کرتا ہے رکھے گا مدد طلب کرتے ہو رکھو گے مدد طلب کرتے ہو رکھو گے | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ سَبْ | مؤنث |
| تو مدد طلب کرتی ہے رکھے گی مدد طلب کرتی ہو رکھو گی مدد طلب کرتی ہو رکھو گی | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ سَبْ | مذکر مؤنث |
| سی مدد طلب کرتا رکھتی ہم سب مدد طلب کرتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں . | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ دُونُونَ | یَسْتَشْهِدُونَ تَمْ سَبْ | متخلص |
| کریں گے رکھیں گی | کریں گے رکھیں گی | کریں گے رکھیں گی | مذکر مؤنث |

Samra Khalil Uppal

(۲۹/۸)

اُردو میں ترجمہ کریں۔

۱. اَعْتَشَلَ خَالِدٌ اَمْسِ

فعل ماضی اسم مرفوع ظرف

(اعتل) + فاعل + مفعول فیہ

جملہ فعلیہ

خالد کل زیما یا۔

۲. تَضَارَبَ الْوَلَدَانِ فِي الْجَنَّةِ سَهِ قَاتِلَهُمَا اَمِيرُهَا يَنْهَا

فعل ماضی اسم مرفوع جر بجر ور حرف فعل ماضی ضمیر مرکب جر بجر ور

تفاعل + فاعل + متعلق فعل عطف (قتل) + مفعول به + فاعل + فعل متعلق

جملہ فعلیہ

جملہ فعلیہ

مدرسے میں دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا، تو
Samra Khalil.Uppal

اس کے امیر نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا۔

۳. اَشْتَصَرَ الْمُسِلِمُونَ رَأْخَوَاتِهِمْ فَنَصَرُوْهُمْ

فعل ماضی اسم مرفوع (مرکب اضافی) حرف فعل ماضی ضمیر منصوبہ

اعطف فاعل (هم + مفعول به) (استفعال) + فاعل + مفعول به

جملہ فعلیہ

جملہ فعلیہ

مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے مدد طلب کی تو انہوں
نے ان کی مدد کی۔

(۳۹ / ۹)

ضَرَبْنَا الْجِدَارَ بِاللَّدْجَارِ فَانْهَدَ مَرْ

فعل مضارع اسم منصوب جر بغيره و حرف فعل مضارع (الضم)
 فاعل (فتح) + مفعول به + متعلق فعل عطف (الفعال) + فاعل هو
 جملة فعلية . جملة فعلية .

تم نے دیوار پر پتھر مارے تو وہ گر گئی .

۵ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ

مركب إضافي اسم فعل مضارع اسم منصوب (الضم) + ضمير منصوب به
 عطف (الفعيل) هو + مفعول به (الفعيل) هو + مفعول به
 جملة فعلية (معطوف عليه) + جملة فعلية (معطوف)
 موصولة + جملة (مركب عطف)

Samra Khalil Uppal
 تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور
 اُس کو سیکھایا .

۶ أَشْتَرَشَتِ الظَّلَّاتُ مِنَ الْأُسْتَادِ فَأَرْسَدَهُمْ

فعل مضارع اسم مرفوع جر + جر بغيره عطف (الفعال) + مفعول به
 فاعل + متعلق فعل (الاستفعال) + فاعل + متعلق فعل
 جملة فعلية . جملة فعلية .

طلباۓ نے أستاد سے رائہماٹی طلب کی تو اُس نے اُن کی
 رائہماٹی کی .

(۳۹ / ۱۰)

٧ يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ

فعل مضارع اسم مرفوع اسم منصوب

(مُقاَمَة) + فاعل + مفعول به = جملہ فعلیہ

مسلمان (الله کی راہ میں) کافروں سے جنگ (قتال) کرتے ہیں رکریں گے۔

٨ يَكْتَسِبُ الرَّزْقَ وَ تُنْفِقُ الرَّزْقَهُ

فعل مضارع اسم مرفوع فعل مضارع اسم مرفوع

(رافعہ) + فاعل

جملہ فعلیہ

شوہر مکاتابے اور بیوی خرچ کرتی ہے۔

Samra Khalil Uppal

| صيغہ نمبر | البوا | الفاظ | مادہ |
|--------------|-------------------|-------------|----------|
| ماضی معروف ۱ | إِقْتِيلَالٌ | إِغْتِسَالٌ | غ. س. ل. |
| ماضی معروف ۱ | تَفَاعُلٌ | تَضَارُبٌ | ض. ر. ب. |
| ماضی معروف ۱ | إِفْعَالٌ | أَخْرَجَ | خ. ر. ج |
| ماضی معروف ۳ | ثَلَاثَى مُجَرَّد | نَصَرُوفًا | ن. ص. ر |
| ماضی معروف ۱ | إِنْفَحَالٌ | إِنْهَدَمَ | ه. د. م |
| ماضی معروف ۱ | لَفَعْلٌ | تَعَلَّمَ | ع. ل. م |

(۲۹ / ۱۱)

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------|----|
| ماضی معروف ۱ | تَعْيَّلٌ | غَلَمْ | ع.-ل.-م | ۷ |
| ماضی معروف ۱ | إِشْتَفَاعَةٌ | إِشْتَرَشَدَ | ر.-ش.-د | ۸ |
| مضارع معروف ۱ | مُفَاعَلَةٌ | يُقَاتِلُ | ق.-ت.-ل | ۹ |
| مضارع معروف ۱ | إِفْتَحَالٌ | يُكَلِّسِبُ | ل.-س.-ب | ۱۰ |
| مضارع معروف ۲ | أَفْعَالٌ | تَنْفِيقٌ | ن.-ف.-ق | ۱۱ |

| جمع | تشکیل | واحد | افتعال |
|--|--|--|--------------|
| لَجْتَبُوا اُن سب کو چاہیے کہ دور ریں زچیں لَجْتَبَنَ اُن سب کو چاہیے کہ دور ریں زچیں | لَجْتَبَا اُن دونوں کو چاہیے کہ دور ریں زچیں لَجْتَبَا اُن دونوں کو چاہیے کہ دور ریں زچیں | لَجْتَبَ اُنے چاہیے کہ دور ریں زچیں لَجْتَبَ اُنے چاہیے کہ دور ریں زچیں | مذکر مؤنث |
| أَجْتَبُوا | أَجْتَبَا | أَجْتَبَ | مذکر |
| تم سب دور ریو انجو أَجْتَبَنَ | تم دونوں دور ریو انجو | تو دور ره / تو نجح | مؤنث |
| | أَجْتَبَا | أَجْتَبَنِي | |
| | تم دونوں دور ریو انجو | تو دور ره / تو نجح | |

| متکلم |
|--|
| لَاجْتَبَتْ مجھے چاہیے کہ میں دور ریوں زچیوں کو چاہیے کہ دور ریں زچیں کو چاہیے کہ دور ریں رچیں۔ |